



”ایمان کی تہتر سہ زیادہ - یا ترسٹھ سہ زیادہ - شاخیں ہیں، جن میں سہ سہ سب سہ افضل شاخ لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور سب سہ کم مرتبہ والی شاخ راستہ سہ کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے“

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا: ”ایمان کی تہتر سہ زیادہ - یا ترسٹھ سہ زیادہ - شاخیں ہیں، جن میں سہ سہ سب سہ افضل شاخ لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور سب سہ کم مرتبہ والی شاخ راستہ سہ کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے“
[صحیح] [متفق علیہ]

اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اعمال، اعتقادات اور اقوال پر مشتمل ایمان کی بہت سی شاخیں ہیں۔ ایمان کی سب سے اعلیٰ و افضل شاخ "لا الہ الا اللہ" کہنا ہے، اس کے معنی کو جانتے ہوئے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے یعنی بس اللہ ہی ایک اکیلا معبود ہے، جو عبادت کے لائق ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جب کہ ایمان کا سب سے کم تر عمل راستہ سہ ہے اس چیز کو ہٹانا ہے، جو لوگوں کی اذیت کا سبب بنے۔ بعد ازاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ دراصل حیا انسان کا ایک ایسا رویہ ہے، جو اسے اچھا کام کرنے اور برے کام سے دور رکھنے پر آمادہ کرتا ہے۔

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/6468>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

